

۸- حکایات

تمهید : حیاتِ انسانی کے ابتدائی دور سے انسان داستانوں اور قصے کہانیوں میں دلچسپی لیتا آیا ہے۔ کسی بھی زبان میں حکایات یا کہانیاں وہ اوّلین نشر پارے ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم کے پچ ابتدائیں مال باپ، دادا دادی اور نانا نانی سے سنتے ہیں۔ بزرگ ان کہانیوں کے ذریعے بچوں میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی آبیاری کے ساتھ ساتھ انھیں زبان کا علم بھی سکھاتے ہیں۔ بڑوں کے لیے تحریر کردہ حکایات بھی خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہیں جن سے سبق اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی خوش گوار بن سکتے ہیں۔ درج ذیل تین حکایات نہایت دلچسپ اور سبق آموز ہیں جو ہماری زندگی پر گہرا اثر مرتب کرتی ہیں۔

حکایت ۱

نابینا در شب تار چراغ در دست و سبوی بر دوش گرفته در بازار می رفت۔ شخصی از وی پرسید کہ ای احمق روز و شب در چشم تو یکسان است، ازین چراغ ترا فائدہ چیست؟ نابینا خندید و گفت: این چراغ برای من نیست بلکہ برای ٹست تا در شب تار سبوی مرا نشکنی۔

حکایت ۲

پادشاهی از منجمی پرسید که چند سال از عمرِ من باقیست؟ گفت: ده سال۔ پادشاه بسیار متفرگ گردید و همچو بیمار بر بستر افتاد۔ وزیر عاقل بود، منجم را رو بروی پادشاه طلبید و پرسید کہ چند سال از عمر تو باقیست؟ گفت: بیست سال۔ وزیر همان وقت از شمشیر منجم را رو بروی پادشاه بقتل رسانید۔ پادشاه خوشنود گردید و حکمت وزیر را پسندید و باز ہیچ سخن منجم نشنید۔

حکایت ۳

آورده اند که حضرت یوسف علیہ السلام در سالهای قحط بوقتِ آنکہ در مصر پادشاه بود ہر روز ضعیف و نزار تر شدی۔ سببِ این حال از وی پرسیدند، جواب نداد۔ بعد ازان کہ بسیار الحاح کر دند، گفت: مرضی دارم نہانی، حکماء گفتند: شما مرض را تقریر فرماید تا بمعالجه مشغول شویم۔ گفت: هفت سال است که بر مسند شاهی متمگن شده ام و زمام اختیار رعایای مصر بدمستِ تصرفِ من باز داده اند و درین مدد نفسِ من در آرزوی آنسست که او را از نا جو سر گردانم و نکرده ام۔ گفتند: این ہمہ مشقت چرا می کشی؟ گفت: موافقتم محتاجان و گرسنگان میکنم و می ترسم که یک کس شبی در ولایتِ مصر گرسنه باشد و من آن شب سیر باشم، مرا بقیامت گرفتاری بود۔

فرهنگ (Glossary)

حکایت ۱ :

Dark night	اندھیری رات	شبِ تار
Pitcher, pot	گھڑا، مٹکا	سبو
Shoulder	کندھا	دوش

حکایت ۲ :

Astrologer	ستارہ شناس، نجومی	منجم
Pondering, thoughtful	فکرمند	متفکر
Learned, wise	عقل مند	عاقل

حکایت ۳ :

Thin, weak	کمزور، لاغر	نزار
Cry, squall	آہ و زاری	الحاح
Secretly, privately	خفیہ، پوشیدہ	نهانی
Resident, seated	رہائش پذیر، بیٹھا ہوا	متمگن
Bridle, rein	باق، کنیل	زمام
Possession	قبضہ	تصریف
Equality, unanimity	مطابقت، برابری	موافقت
The hungry, starved (pl.)	بھوکے	گرسنگان

Exercise / پرسش

حکایت ۱ :

۱۔ مناسب الفاظ سے ذیل کی خانہ پری کیجیے۔
Fill in the blanks with appropriate words.

- ۱۔ روز و شب در چشم تو است۔
- ۲۔ ازین چراغ ترا چیست؟
- ۳۔ این چراغ برای نیست۔
- ۴۔ تا در سبوی مرا نشکنی۔

۲۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی ضد تلاش کر کے لکھیے۔
Find antonyms of the following from the text.

بینا ، عاقل ، روز ، نقصان

حکایت ۲:


- ۱۔ درج ذیل کی وجہ اردو یا انگریزی میں بیان کیجیے۔
- ۱۔ پادشاہ بسیار متفکر گردید۔
 - ۲۔ وزیر منجم را بروی پادشاہ بقتل رسانید۔
 - ۳۔ پادشاہ باز ہیچ سخن منجم نہ شنید۔

۲۔ مندرجہ ذیل جملوں کا اردو یا انگریزی میں ترجمہ کیجیے۔

- ۱۔ وزیر عاقل بود۔
- ۲۔ چند سال از عمرِ تو باقیست؟
- ۳۔ پادشاہ حکمتِ وزیر را پسندید۔
- ۴۔ همچو بیمار بربستر افتاد۔

حکایت ۳:

۱۔ درج ذیل معماً حل کیجیے۔



Write the meanings in Urdu or English.

- ۱۔ حکمتِ وزیر
- ۲۔ زمام اختیار
- ۳۔ مسندِ پادشاہی
- ۴۔ ولایتِ مصر
- ۵۔ حضرت یوسف نے بیماری کا جو سبب بتایا اسے اردو یا انگریزی میں بیان کیجیے۔

Write the reason of Hazrat Yusuf's illness in Urdu or English.

☆ ہر حکایت میں جتنے کردار ہیں، ان کے نام لکھیے۔

Write the names of all the characters from the stories.